

# شیطانی حرکات و بمباری سے بچنے کا واحد طریقہ

By Irshad Mahmood – Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

## شیطانی حرکات و بمباری سے بچنے کا واحد طریقہ

شیطانی حرکات و بمباری سے بچنے کا واحد طریقہ جو اللہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھے اور باقی لوگ پوری توجہ سے سنیں۔ قرآن سمجھ کر عمل کی نیت سے پڑھا جائے کوشش کریں کہ شام کو ایک وقت مقرر کر لیں کہ سارے گھر والے مل کر سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آجکل تو انٹرنٹ و ٹی وی پر بھی سننے کی آسانی ہے۔ جتنا آسانی سے روزانہ پڑھا یا سنا جاسکے اسکا ضرور احتیاط کیا جائے۔ کوشش کریں کہ اگر پہلے روز میں جتنا پڑھا ہے تو دوسرے روز اس سے اگلا حصہ پڑھیں اور تیسرے روز اس سے اگلا حصہ پڑھیں۔ اس طرح انشاءً اللہ چند مہینوں میں پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا یا سنا جاسکے گا۔ کیا پتہ اللہ اس کوشش کرنے پر ہمیں ہزار گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ثواب دے اور شیطانی حرکات سے بچا بھی جاسکے۔ آمین۔

اے مومنوں – جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور اپنے پروردگار کو یاد کیا کرو – خبردار – کسی بھی وقت غافل نہ ہونا – سورة الاعراف آیات - 204-205

## اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ

اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ بعد ضروری ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں۔

## تلاوت کا مطلب سمجھ کر پڑھنا

تلاوت کا مطلب سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اگر عربی سمجھ نہیں آتی ہو تو ترجمہ ضرور پڑھیں۔ جس طرح کچھ اسکولوں میں بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح عربی زبان پڑھانے کے لیے سب مل کر انتظامیہ سے درخواست کریں اور اللہ سے ضرور دعا کریں کہ بچوں کو عربی زبان پڑھانے کا کوئی مناسب انتظام ہو جائے۔ آمین۔

حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورة البقرہ آیت

44

اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تو بے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ سورة القمر آیات 17، 22، 32، 40

اگر ملک یا شہر یا گاؤں میں نفسہ نفسی کا عالم ہو تو گھر و گلی و محلہ و شہر و گاؤں میں قرآن ترجمہ کے ساتھ لاوڈ اسپیکر پر ریکارڈنگ چلائیں۔ اللہ کی خصوصی کرم کے لیے فلم و ڈرامہ و گانوں اور تمام غیر اسلامی کاموں سے مکمل پرہیز کیا جائے۔

شیطان کا تجربہ آدم کے وقت سے لیکر اب تک اور قیامت تک اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ شیطان کس طرح انسان پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان کی شیطانی کس حد تک انسان کے لیے خطرناک ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے نیچے لینک پر موجود مقالے پڑھئے۔

[http://www.global-right-path.com/Ummah-Reformer/MR\\_Shaytaan\\_Bombardment.htm](http://www.global-right-path.com/Ummah-Reformer/MR_Shaytaan_Bombardment.htm)

Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors

<http://global-right-path.webs.com> <http://global-right-path.blogspot.com> <http://www.global-right-path.com>

Email to [global-right-path+subscribe@googlegroups.com](mailto:global-right-path+subscribe@googlegroups.com) to subscribe